



## سوال

(12) مسجد کا سامان غریبوں کو دینا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہماری مسجد کو کسی صاحب ثروت نے از سر نو تعمیر کر دیا ہے، اس کا پہلا سامان مثلاً ٹی آر اور گاڈرو وغیرہ فالتو پڑے ہیں، کیا کسی محتاج یا غریب کو دے جاسکتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنے مکان کی تعمیر میں انہیں استعمال کرے؟ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ درکار ہے۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر مسجد ضرورت مند ہے تو انہیں فروخت کر کے مسجد کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور اگر مسجد کو کسی قسم کی ضرورت نہیں اور وہ سامان فالتو پڑا ہے تو اسے کسی غریب ضرورت مند کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ وہ اسے اپنے استعمال میں لاسکے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر تیری قوم عہد جاہلیت یا کفر سے نئی نئی اسلام میں نہ آئی ہوتی تو میں کعبہ کا خزانہ نکال کر اسے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتا۔“ [1]

جب کعبہ کے فاضل مال کا یہ حکم ہے تو باقی مساجد کے فالتو مال کا بالاولیٰ یہی حکم ہے اور یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا کہ اگر مساجد کے غیر ضروری سامان کو مساجد کے علاوہ دیگر مصارف مثلاً غرباء و مساکین میں صرف کرنے سے کسی فتنہ کا اندیشہ ہو تو اسے کسی بھی دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر افضل ہے کہ ایسا سامان جو فالتو ہے اور مسجد کے کسی مصرف میں نہیں تو اسے محتاجوں اور مصلحت کے کاموں میں صرف کر دیا جائے۔ اسے بلاوجہ ایک جگہ پر رد کے رکھنا جائز نہیں۔ بلکہ ایسا کرنا اس کے ضیاع کے مترادف ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

[1] - صحیح مسلم، الحج: 1333۔

حذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ اصحاب الحدیث



جلد: 3، صفحہ نمبر: 46

محدث فتویٰ